

۷۸۶۹۲



अस्सलवातुल कल्बिय्यतु बिलआयातिल कुर्आनिय्यति

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اِسْمِي وَجَدِي صَاحِبِ الْعَيْنِ الْكَمَالِ



۳

باب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ الْقَلْبِيَّةُ بِالْأَيِّتِ الْقُرْآنِيَّةِ

अस्सलवातुल कल्बिय्यतु बिल्आयातिल कुर्आनिय्यति

3

باب



فہرست

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۳	فَصَائِلُ الصَّلَاةِ الْقَلْبِيَّةِ بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ	۱
۹	फ़ज़ाइलुःसलवातिल क़लिबियति बिलआयातिल कुर्आनियति	۲
۱۸	الصَّلَاةُ الْقَلْبِيَّةُ بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ (درودِ قلبی بر آیات قرآنی)	۳
۶۹	عربی، اردو اور ہندی ترجمہ کے ساتھ ۲۳ نمبر تا ۳۳ نمبر	
۷۰	الصَّلَاةُ النُّورَانِيَّةُ مَعَ بَيَانِ أَنْسَابِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ (درودِ نورانی اور نسب نامہ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ)	۴
۷۶	الصَّلَاةُ الْقَادِرِيَّةُ (درودِ قادری)	۵



باب (۳)

فَضَائِلُ الصَّلَاةِ الْقَلْبِيَّةِ

بِأَيِّتِ الْقُرْآنِيَّةِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَدِّ الْحَسَنِ

وَالْحُسَيْنِ وَالْعَوْتِ الْأَعْظَمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

الْحِجْلَانِيِّ وَالسَّادَاتِ أَشْيَاخِ أَرْبَعَةِ عَشَرَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ○

(گزشتہ باب ۲ سے پیوستہ)

روحانی تعلیمات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے

لئے ایک مرکز بنایا ہے جس کے گرد اسکے متعلق اشیاء گردش کرتی ہیں چنانچہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** (سب کے سب اپنے مرکز

میں پھرتے ہیں) اسی مرکز کو دل کہا جاتا ہے اس کی معرفت رکھنے والے کو

عارف کہا جاتا ہے چنانچہ سال کے اندر بھی دل ہے اور مہینہ اس کے اعضاء ہیں اسی طرح مہینہ کے اندر بھی دل کا وجود ہے اور ہفتے اس کے اعضاء ہیں اور ہفتہ میں بھی دل ہے اس کے اعضاء ایام ہیں اور ایام میں بھی دل ہے گھنٹے اس کے اعضاء ہیں اسی طرح لمحات تک سلسلہ جاری ہے۔ تمام سالوں، مہینوں، ہفتوں اور ایام و لمحات میں موجود دل کی معرفت ان مردانِ خدا کو ہے جنہیں اپنے قلب کی حقیقت کا علم عطا کیا گیا اور انہیں

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (پس ہم نے تم

سے تمہارے پردے کو دور کر دیا پس تمہاری نگاہ آج بڑی تیز ہے) کا نور عطا کیا گیا ہے کائنات کی ہر چیز کو قوت گویائی حاصل ہے اور ہر شئی اپنے حال کے اعتبار سے ذکر خدا و رسول میں مصروف ہے جیسا کہ فرمایا:

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (اسی کی پاکی بول رہے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں ہر چیز اس کے حمد کی پاکی بول رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے) جملہ ناطق افراد سے جو کلام ظاہر ہوتے ہیں ہر کلام میں قلب پوشیدہ ہوتا ہے اسی کلام کے قلب کو سمجھانے کے لئے مختلف کلمات سے جڑے الفاظ و تعبیرات کا سہارا لیا جاتا ہے چنانچہ کلام اللہ کے سورہ یس کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے جس میں

اللہ نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** (اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی) سے آشکارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت شناس امتیوں کو **سَلَّمَ** **قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ** (سلام کہا جائے گا مہربان رب کی طرف سے) کی بشارت سے نوازا ہے صوفیائے کرام نے یس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں شمار فرمایا ہے جس کے اعداد ۷۰ / ہیں اعداد کُن کے مطابق، اگر آپ یس (۷۰) اور اسم پاک حمید (۶۲) کو جمع کریں تو ان کے اعداد ۱۳۲ بنتے ہیں اعداد قلب کے مطابق، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ علوم و معارف کا مخزن ہے، اسی طرح یس (۷۰) اور اسم پاک باطن (۶۲) کو جمع کریں تو ۱۳۲ بنتے ہیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اشیاء کائنات کے ہر قلب کی طرف فیض رساں ہے اور یس (۷۰) اور نبی (۶۲) کے اعداد کو بھی جمع کریں تو یہ اعداد قلب کے مطابق ۱۳۲ ہوتے ہیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہر نبی کی اصل ہیں اور آپ کے قلب پاک کا فیض سب کو محیط ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ** (میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے) اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول النبی اور بعثت کے اعتبار سے خاتم

النبین ہیں یہ مذکورہ اسماء قلب کے باطنی اسرار میں سے ہیں پیش نظر کتاب ان تمام اسماء کے خواص اور اسرار کو شامل کئے ہوئے ہے۔

حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی و قلبی تعلیمات اب ہم یہاں الفتح الربانی کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں جو دلوں میں ایمان کا نور اور وجود میں اللہ و رسول کی محبت پیدا کرتے ہیں چنانچہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ انسانی منافقت کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تجھ پر افسوس تیری زبان مسلم ہے لیکن تیرا قلب مسلم نہیں تیرا قول مسلمان ہے فعل مسلمان نہیں تو جلسوں میں انجمنوں میں مسلمان ہے خلوت میں مسلمان نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ تحقیق جب تو نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اور تمام افعال خیر کریگا اور یہ تیرے اعمال خدا کے لئے نہ ہونگے پس تو منافق ہے اللہ عزوجل کی رحمت سے دور ہونے والا ابھی تو اپنے تمام افعال و اقوال اور خراب و ناکارہ مقاصد سے توبہ کر لے مردانِ خدا کے کاموں میں رنگ برنگ نفاق نہیں ہوتا وہ اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے والے یقین کرنے والے خدا کو ایک جاننے والے اخلاص والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بلاؤں اور آفتوں پر صبر کرنے والے اس کی نعمتوں اور کرامتوں پر شکر گزار ہیں وہ اولاً اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں سے کرتے ہیں پھر اپنے دلوں سے پھر اسرار کے ساتھ، وہ دلوں سے خدا کے ساتھ ذکر خیر کرتے رہے یہاں تک کہ واصلِ بحق ہو گئے، تیری پیروی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

اس وقت تک صحیح نہ ہوگی جب تک کہ تو حضور نبی کریم ﷺ کے تمام اقوال پر عمل نہ کرے جب تو حضور کے تمام حکموں پر عمل کر لے گا تو تیرا قلب اور باطن تیرا استقبال کرے گا اور علم ان دونوں کو ان کے رب کے پاس داخل کر دے گا تیرا علم تجھ کو پکارتا ہے لیکن تو اس کو نہیں سنتا اس لئے کہ تیرا دل زندہ ہی نہیں ہے اے سننے والے تو علم کی آواز دل اور باطن کے کان سے سن اور اس کے قول کو قبول کر تو اسی سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔

(افتح الربانی تیسری مجلس ملخصاً)

آپ فرماتے ہیں تمہارے دین کی بربادی چار چیزوں سے ہے پہلی یہ کہ تم اس علم پر عمل نہیں کرتے جو تم نے سیکھا ہے دوسری یہ کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس پر عمل کرتے ہو تیسری یہ کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو اسے حاصل نہیں کرتے پس تم جاہل کے جاہل رہتے ہو چوتھی یہ کہ تم دوسروں کو تعلیم سے روکتے ہو، اے غافلو! تم اپنی غفلت سے نکلو تمہارا دل خدا کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اور اس کی محبت تمہاری طرف کئی قدم بڑھاتی ہے، اے غلام جب تیری خلوت اللہ عزوجل کے ساتھ درست ہو جائے گی تو تیرا باطن مدہوش ہو جائے گا اور قلب پاک ہوگا تیری نظر سراپا عبرت ہو جائے گی اور تیرا دل مکمل فکر ہو جائے گا تیری روح اور معنی حق کی طرف واصل ہو جائیں گی فکر دنیا پردہ اور عقوبت ہے اور فکر آخرت زندگی ہے جس کو بھی قلب کا تفکر عطا کیا جاتا ہے اس کو دنیا و آخرت کا علم بھی

عطا کر دیا جاتا ہے تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنے دل کو دنیا میں ضائع کر رہا ہے حالانکہ تیرا معبود حقیقی اس سے فارغ ہو چکا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تیرا مقصوم ہے تجھے ملنے والا ہے اے غلام تو مجھے اپنا آئینہ بنا لے اپنے قلب کا آئینہ بنا لے اور اپنے باطن اور اپنے اعمال کا آئینہ بنا لے تو مجھ سے قریب ہو جا پس تحقیق کہ تو اپنے نفس میں قرب کی وجہ سے وہ کیفیت دیکھنے لگے گا جو مجھ سے دوری میں نہیں ہے اگر تجھے کوئی حاجت دینی ہو پس تو مجھے لازم پکڑ لے میں دین الہی میں کسی امر کی تجھ سے فروگزاشت نہ کروں گا میں دینی امر میں برہنہ تلوار ہوں اس میں میرے پاس بے باکی ہے میں نے دین ایسے سخت ہاتھوں سے پرورش پائی ہے جو نفع حاصل کرنے والے اور منافق نہ تھے تو اپنی دنیا چھوڑ اور مجھ سے قریب ہو جا یقیناً میں آخرت کے دروازہ پر مقیم ہوں تو بھی آ کر میرے پاس ٹھہر جا اور میری بات سن اور جلد مرنے سے پہلے اس پر عمل کر۔

(افتح الربانی پانچویں مجلس ملخصاً)

نوٹ: قلب پر تفصیلی گفتگو آئندہ بھی جاری ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وَاللّٰهُمَّ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَطْهَرٍ

الْقُلُوْبِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا يَسْ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ

وَ كُلِّ اُمَّةٍ اَجْمَعِيْنَ ۝

फ़ज़ा इलुरसलवातिल
क़लिबय्यति बिलआयातिल
कुर्आनिय्यति

○ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى جَدِّ الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ وَالْغَوْثِ الْاَعْظَمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِي
وَالسَّادَاتِ اَشْيَاخِ اَرْبَعَةِ عَشَرَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ

○ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ


(गुज़स्ता बाब २ से पैवस्ता)

रुहानी तअलीमात के लेहाज़ से अल्लाह
रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ के लिए एक मर्कज़
बनाया है जिसके गिर्द उसके मोतअल्लिक अश्या
गरदिश करती हैं चुनान्वेह अल्लाह तआला
फ़रमाता है: (كُلٌّ فِيْ فَلَكَ يَسْبَحُوْنَ) (सब के सब अपने
मर्कज़ में फिरते हैं) उसी मर्कज़ को दिल कहा
जाता है उसकी मअरिफ़त रखने वाले को आरिफ़

(पहचान ने वाला) कहा जाता है चुनान्चेह साल के अन्दर भी दिल है और महीना उसके अज़ा हैं इसी तरह महीना के अन्दर भी दिल का वुजूद है और हफ़ते उसके अज़ा हैं और हफ़ता में भी दिल है उसके अज़ा अय्याम (दिन) हैं और अय्याम में भी दिल है घंटे उसके अज़ा हैं इसी तरह लम्हात तक सिल्लिसला जारी है। तमाम सालों, महीनों, हफ़तों और अय्यामो लम्हात में मौजूद दिल की मअरिफ़त उन मर्दाने खुदा को है जिन्हें अपने क़ल्ब की हकीकत का इल्म अता किया गया और उन्हें: **فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ** (पस हमने तुम से तुम्हारे परदे को दूर कर दिया पस तुम्हारी निगाह आज बड़ी तेज़ है) का नूर अता किया गया है काएनात की हर चीज़ को कुव्वते गोयाई (बोलने की ताकत) हासिल है और हर शय अपने हाल के एअतेबार से जिक्रे खुदा व रसूल में मसरूफ़ है जैसा कि फ़रमाया: **تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا** (उसी की पाकी बोल रहे हैं सातों


आसमान और ज़मीन और जो भी उनमें हैं हर चीज़ उसके हुम्द की पाकी बोल रही है लेकिन तुम उनकी तसबीह नहीं समझते बेशक वह बड़ा बुर्दबार बख़्शने वाला है) जुम्ला नातिक़ अफ़राद (बोलने वाले) से जो कलाम जाहिर होते हैं हर कलाम में क़ल्ब पोशीदह होता है इसी कलाम के क़ल्ब को समझाने के लिए मुख़लिफ़ कलिमात से जुड़े अल्फ़ाज़ो तअबीरात का सहारा लिया जाता है चुनान्वेह कलामुल्लाह के सूरए यासीन को कुर्आन का क़ल्ब कहा गया है जिस में अल्लाह ने हकीकते मोहम्मदिया ﷺ को **وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ** (और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह तआला ने फेंकी) से आशकारह करते हुए आप ﷺ की हकीकत शनास उम्मतियों को **سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ** (सलाम कहा जाएगा मेहरबान रब की तरफ़ से) की बशारत से नवाज़ा है सूफ़ियाए किराम ने यासीन को नबी करीम ﷺ के अस्माए मुबारका में शुमार फ़रमाया है जिसके अज़दाद (७०) हैं अज़दादे कुन के मोताबिक, अगर आप **یس** (यासीन ७०)

और इस्मे पाक **حَمِيد** (हमीद ६२) को जमअ करें तो उनके अअदाद १३२ बनते हैं अअदादे कल्ब के मोताबिक, जिस से इस बात की तरफ इशारह है कि कल्बे मोहम्मदी **ﷺ** जुम्ला उलूमो मआरिफ का मख़ज़न है, इसी तरह **یس** (यासीन ७०) और इस्मे पाक **بَاطِن** (बातिन ६२) को जमअ करें तो १३२ बनते हैं जिस से इस बात की तरफ इशारह है कि कल्बे मोहम्मदी **ﷺ** का नूर अश्याए काइनात के हर कल्ब की तरफ फैज़ रसाँ है और **یس** (यासीन ७०) और **نَبِيّ** (नबी ६२) के अअदाद को भी जमअ करें तो यह अअदादे कल्ब के मोताबिक १३२ होते हैं जिस से इस बात की तरफ इशारह है कि आप हर नबी की अस्ल हैं और आप के कल्बे पाक का फैज़ सब को मोहीत है जैसा कि आप **ﷺ** ने फ़रमाया: **كُنْتُ** (مैं उस वक़्त भी नबी था जब कि आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिटटी के दर्मियान थे) इस एअतेबार से आप **ﷺ** अव्वलुन्नबी (पहले नबी) और बेअसत (दुनिया में आने) के एअतेबार से ख़ातमुन्नबीयीन

(नबियों में आखिरी) हैं यह मज़कूरह अस्मा क़ल्ब के बातिनी असरार में से हैं पेशे नज़र किताब इन तमाम अस्मा के ख़्वास और असरार (राज़ों) को शामिल किए हुए है। 

 हुज़ूर ग़ौसुल अअज़म रदियल्लाहु तअ़ाला अन्हु की रूहानी व क़ल्बी तअ़लीमात अब हम यहाँ “अल्फ़तुर्रब्बानी” के हवाले से पेश कर रहे हैं जो दिलों में ईमान का नूर और वुजूद में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत पैदा करते हैं चुनान्वेह हुज़ूर ग़ौसुल अअज़म रदियल्लाहु अन्हु इन्सानी मोनाफ़िकत को ज़ाहिर करते हुए फ़रमाते हैं: तुझ पर अफ़सोस तेरी ज़बान मुस्लिम है लेकिन तेरा क़ल्ब (दिल) मुस्लिम नहीं तेरा क़ौल (बोलना) मुसलमान है फ़ेअल (करना) मुसलमान नहीं तू जलसों में अंजुमनों में मुसलमान है ख़ल्वत (तनहाई) में मुसलमान नहीं क्या तू नहीं जानता कि तहकीक (यकीनन) जब तू नमाज़ पढ़ेगा और रोज़ा रखेगा और तमाम अफ़आले ख़ैर (अच्छे काम) करेगा और यह तेरे अअमाल (काम) खुदा के लिए ना होंगे पस तू मुनाफ़िक

है अल्लाह अज्जा व जल्ला की रहमत से दूर होने वाला अभी तू अपने तमाम अफ़्आलो अक्वाल(करना और बोलना) और ख़राबो नाकारा मक्फ़ासिद से तौबा करले मर्दाने खुदा के कामों में रंग बिरंग नेफ़ाक़ (दिल के ख़ेलाफ़ बात ज़ाहिर करना) नहीं होता वह अज़ला मर्तबा पर पहुँचने वाले यकीन करने वाले खुदा को एक जानने वाले एख़्लास वाले होते हैं वह अल्लाह तआला की बलाओं और आफ़तों पर सब्र करने वाले उसकी नेअमतों और करामतों पर शुक्र गुज़ार हैं वह अव्वलन अल्लाह तआला का ज़िक्र अपनी ज़बानों से करते हैं फिर अपने दिलों से फिर असरार (पोशीदगी) के साथ, वह दिलों से खुदा के साथ ज़िक्रे ख़ैर करते रहे यहाँ तक कि वासिले बहक़ (हक़ को पाने वाला) हो गए, तेरी पैरवी रसूलुल्लाह ﷺ के साथ उस वक़्त तक सहीह ना होगी जब तक कि तू हुज़ूर नबी करीम ﷺ के तमाम अक्वाल (बातों) पर अमल ना करे जब तू हुज़ूर के तमाम हुक्मों पर अमल कर लेगा तो तेरा कल्ब और बातिन तेरा

इस्तेक़बाल करेगा और इल्म इन दोनों को उन के रब के पास दाख़िल कर देगा तेरा इल्म तुझको पुकारता है लेकिन तू उस को नहीं सुनता इसलिए कि तेरा दिल ज़िन्दा ही नहीं है ऐ सुनने वाले तू इल्म की आवाज़ दिल और बातिन के कान से सुन और उसके कौल (बात) को क़बूल कर तू इसी से नफ़अ़ हासिल कर सकता है। 

(अल्फ़्हुर्रब्बानी तीसरी मजलिस मुलख़्ख़सन)

 आप फ़रमाते हैं तुम्हारे दीन की बर्बादी चार चीज़ों से है पहली यह कि तुम उस इल्म पर अमल नहीं करते जो तुमने सीखा है दूसरी यह कि जिस का तुम्हें इल्म नहीं उस पर अमल करते हो तीसरी यह कि जिस को तुम जानते नहीं हो उसे हासिल नहीं करते पस तुम जाहिल के जाहिल रहते हो चौथी यह कि तुम दूसरों को तअलीम से रोकते हो, ऐ गाफ़िलो! तुम अपनी ग़फ़लत से निकलो तुम्हारा दिल खुदा की तरफ़ एक क़दम बढ़ता है और उसकी मोहब्बत तुम्हारी तरफ़ कई क़दम बढ़ाती है, ऐ गुलाम जब तेरी ख़ल्वत (तनहाई) अल्लाह अज़्जा व जल्ला के

साथ दुखस्त हो जाएगी तो तेरा बातिन मदहोश (मस्त) होजाएगा और कल्ब पाक होगा तेरी नज़र सरापा इबरत (नसीहत) होजाएगी और तेरा दिल मोकम्मल फ़िक्र होजाएगा तेरी रूह और मअना हक़ की तरफ़ वासिल (पहुंचने वाला) हो जाएंगी फ़िक्रे दुनिया पर्दा और उकूबत (सज़ा) है और फ़िक्रे आख़िरत ज़िन्दगी है जिस को भी कल्ब का तफ़क्कुर (सोच वीचार) करना अता किया जाता है उसको दुनिया व आख़िरत का इल्म भी अता कर दिया जाता है तुझ पर अफ़सोस है कि तू अपने दिल को दुनिया में ज़ाएअ(बरबाद) कर रहा है हालाँकि तेरा मअबूदे हकीकी इस से फ़ारिग हो चुका है कि दुनिया में जो कुछ भी तेरा मक्सूम (किस्तम की रोज़ी) है तुझे मिलने वाला है ऐ गुलाम तू मूझे अपना आईना बनाले अपने कल्ब का आईना बनाले और अपने बातिन और अपने अअमाल (कामों) का आईना बनाले तू मुझ से करीब होजा पस तहकीक़ कि तू अपने नफ़्स में कुर्ब की वजह से वह कैफ़ियत देखने लगेगा जो मुझ से दूरी में

नहीं है अगर तुझे कोई हाजते दीनी हो पस तू मुझे लाज़िम पकड़ले मैं दीने इलाही में किसी अम्र की तुझ से फ़रोगुज़ाशत (कोताही) ना करूंगा मैं दीनी अम्र (चीज़) में बर्हना (खुली) तलवार हूँ इस में मेरे पास बेबाकी है मैंने दीन ऐसे सख़्त हाथों से परवरिश पाई है जो नफ़अ हासिल करने वाले और मुनाफ़िक ना थे तू अपनी दुनिया छोड़ और मुझ से करीब होजा यकीनन मैं आख़िरत के दरवाज़ह पर मोकीम (मौजूद) हूँ तूभी आकर मेरे पास ठहर जा और मेरी बात सुन और जल्द मरने से पहले उस पर अमल कर। (अल्फ़तुर्हुर्रब्बानी पाँचवी मजलिस मुलख़वसन)

नोट :- कल्ब पर तफ़्सीली गुफ़्तगू आइंदा भी जारी है इन्शाअल्लाहु त़आला।

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَطَهَّرِ
الْقُلُوْبِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا يَسُّ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَكُلِّ

أَمِيهِ أَجْمَعِينَ ○



الصلواتُ القلبيةُ

بالآياتِ القرآنيةِ

بِسْمِ اللَّهِ جَلِيلِ الشَّانِ ○

عَظِيمِ الْبُرْهَانِ ○ شَدِيدِ السُّلْطَانِ ○

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ○

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ مِنَ

الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ وَخَوَاطِرِ السُّوءِ وَ

هَوَاجِسِ النَّفْسِ وَمِنْ فِتْنَةِ كُلِّ جَبِيٍّ

وَإِنْسِيٍّ وَمِنْ رِيَاءٍ وَنِفَاقٍ وَعُجْبٍ وَكِبَرٍ

وَشُرْكَ وَخِلَالِ السُّوءِ النَّاشِئَةِ فِي قَلْبِي

وَمِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ مَرْدِيَّةٍ فِي مَهَالِكِ
 نَفْسِي وَمِنَ الْبَدْعِ وَالضَّلَالِ وَالْأَهْوِيَّةِ
 الْمُسَلَّطَةِ لِلنَّيِّرَانِ عَلَى جِسْمِي وَمِنْ كُلِّ
 قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَهَمَّةٍ تَحْجُبُ عَنِ الْقُلُوبِ
 الْعَرَشِيَّةِ قَلْبِي وَمِنْ اتِّبَاعِ الْأَهْوِيَّةِ
 الْمُضِلَّةِ وَالطَّبَائِعِ النَّفْسِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ
 الرَّدِيَّةِ أَعُوذُ بِالْمَلِكِ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ مِنَ
 الشَّيْطَانِ الْخَبِيثِ الْمَرِيدِ أَعُوذُ بِالرَّبِّ
 الْوَدُودِ مِنْ نَقْمَتِهِ إِذَا غَفَلْتُ عَنْ طَاعَتِهِ
 إِذْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَعُوذُ بِهِ
 مِنْ سَطْوَتِهِ إِذَا غَضِبَ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِهِ
 أَعُوذُ بِهِ مِنْ هَيْبَتِهِ عِنْدَ شِدَّةِ بَطْشِهِ فِي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلطَّاعِينَ مِنْ بَرِيَّتِهِ وَأَعُوذُ
بِهِ مِنْ كَشْفِ الْغَطَاءِ وَالسُّتْرِ وَالتَّيْهَانِ فِي
مَعَشِيَّتِهِ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَنَسِيَانِ الْأَصْلِ
وَالْفَرْعِ وَالْمَيْلِ إِلَى الزَّيْغِ وَالرُّعُونَةِ
وَالْحِيَلَاءِ وَالْكِبْرِ وَتَرْكِ الطَّاعَةِ وَالْقُرْبَةِ
وَالْبِدْرِ وَالتَّالِي عَلَيْهِ وَالْأَيْمَانَ الْكَاذِبَةَ
وَالْحِنْثِ دُونَ الْبِرِّ وَخَاتِمَةِ السُّوءِ
وَالْإِفْلَاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَالْمُؤَافَاةِ عِنْدَ
حُضُورِ الْمَنِيَّةِ بِالشَّرِّ ○

(مذکورہ استعاذہ سیدی سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

کے معمولات میں سے ہے، روزانہ ۱۱ بار یا کم از کم ۱۱ بار پڑھنے کا

معمول بنائے مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا
 هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ○ وَعَلَى وَآلِهِ وَآلِهِ
 وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَتَابِعِيهِ وَتَبِعِ تَابِعِيهِ
 وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ وَآلِهِ وَ
 الْخَوَاجَةِ مُعِينِ الدِّينِ حَسَنِ السَّنْجَرِيِّ
 وَآلِهِ وَالْمَخْدُومِ السَّيِّدِ أَحْمَدَ وَآلِي اللَّهِ
 وَخَوَارِجِي وَآلِي اللَّهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَكُلِّ
 الْمَلَائِكِ وَكُلِّ أُمَّةٍ أَجْمَعِينَ ○ وَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا
 صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ ○

(صحیح البخاری، کتاب الایمان)


ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بزرگ شان والا عظیم دلیل والا ہے، زبردست غلبہ و سلطنت والا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔


اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا: میں پناہ لیتا ہوں عرش و کرسی کے رب کی، گمراہ شیطان سے، بُرے خیالات، نفسانی وسوسوں تمام جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے، ریاء اور نفاق، خود پسندی، تکبر اور شرک سے، دل میں پیدا ہونے والے بُرے عقیدے سے، ہر ایسی خواہش و لذت سے جو نفس کو ہلاکت کے مقام پر لے جائے۔ بدعت و گمراہی کی ایسی خواہشات سے جو جسم پر آگ کو مسلط کر دیں، ہر ایسے قول و فعل اور وہم سے جو میرے دل کو عرش والے سے پردے میں کر دے، گمراہ کن خواہشات کی اتباع سے، بُرے اخلاق اور نفسانی جذبات سے پناہ چاہتا ہوں شیطان خبیث مردود سے لائق تعریف

بزرگ بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں پناہ چاہتا ہوں بہت محبت کرنے والے پالنہار کی اس وقت سے جب میں اس کی اطاعت سے غافل ہو جاؤں کیونکہ وہ ہی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے قہر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ گناہ گاروں پر غضب فرمائے گا۔ اس کی ہیبت سے پناہ چاہتا ہوں جب قیامت کے دن اس کی مخلوق میں سے سرکش لوگوں کے لئے اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ میں اپنے پوشیدہ گناہوں کے ظاہر ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جنگلوں اور دریاؤں میں گناہ کرنے سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اپنی اصل اور فرع کو بھلا کر بلندی چاہنے، اپنے انجام پر نظر رکھنے، تکبر و غرور میں مبتلا ہونے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرب اور نیکی کو چھوڑنے اور اسے چھوڑنے پر قسم کھانے نیز جھوٹی قسم کھانے، نیکی کے علاوہ قسم توڑنے، بُرے انجام، ہر قسم کی نیکی سے الگ تھلک ہونے اور وقت موت برائی کے ساتھ رخصت ہونے سے اللہ تعالیٰ کی

پناہ چاہتا ہوں۔ 


اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
 اللہ کے نام سے شروع اور خوب درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد
 ﷺ پر جو اللہ کے رسول ہیں اور آپ ﷺ کے والدین کریمین
 پر، آپ ﷺ کی آل پر، آپ ﷺ کی ازواج پر، آپ ﷺ
 کی اہل بیت و اصحاب پر، اور تمام انبیاء اور رسولوں پر، تابعین اور تبع
 تابعین پر اور شیخ عبدالقادر جیلانی پر اور آپ کی آل پر، اور خواجہ معین
 الدین حسن سنجری پر اور آپ کی آل پر، حضرت مخدوم سید احمد ولی اللہ
 اور آپ کے اصحاب روحانی پر، آپ ﷺ کی امت کے تمام اولیاء
 پر اور تمام فرشتوں پر اور آپ ﷺ کی ساری امت پر۔ اور اللہ کے
 رسول ﷺ نے فرمایا سنو! بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا
 لٹھڑا ہے جب وہ درست رہے گا تو سارا جسم درست رہے گا جب وہ
 خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا سنو! وہ دل ہے۔


تर्जमा:-  अल्लाह के नाम से शुरूअ जो
 बुजुर्ग शान वाला अज़ीम दलील वाला है,
 ज़बरदस्त ग़ल्बा व सल्तनत वाला है जो


अल्लाह ने चाहा वह हुवा, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मर्दूद से। 

अल्लाह तआला की पनाह चाहना: मैं पनाह लेता हूँ अर्शो कुर्सी के रब की, गुम्राह शैतान से, बुरे ख्यालात, नफ़सानी वस्वसों तमाम जिन्नों और इन्सानों के फितनों, रेया और नेफ़ाक़, खुद पसंदी, तकब्बुर और शिर्क से, दिल में पैदा होने वाले बुरे अक़ीदे, हर ऐसी ख़्वाहिशो लज्ज़त से जो नफ़स को हलाकत के मक़ाम पर लेजाए। बिदअतो गुम्राही की ऐसी ख़्वाहिशात जो जिस्म पर आग को मोसल्लत करदे हर ऐसे कौलो फ़ेअल से और वहम से जो मेरे दिल को अर्श वाले से परदे में करदे, गुम्राहकुन (भटकाने वाले) ख़्वाहिशात की इत्तेबाअ से, बुरे अख़्लाक़ और नफ़सानी जज़्बात से पनाह चाहता हूँ। शैतान ख़बीस मर्दूद से, लाइके तअरीफ़ और बुजुर्ग़ बादशाह

की पनाह चाहता हूँ। और मैं पनाह चाहता हूँ बहुत मोहब्बत करने वाले पालनहार की उस वक़्त से जब मैं उस की एताअत से ग़ाफ़िल हो जाऊँ क्यों कि वह ही शहे रग से ज़्यादा करीब है। अल्लाह तआला के क़हर से पनाह चाहता हूँ जब वह गुनाहगारों पर ग़ज़ब फ़रमाएगा। उस की हैबत से पनाह चाहता हूँ जब क़ियामत के दिन उस की मख़्लूक में से सरकश लोगों के लिए उस की पकड़ बड़ी सख़्त होगी। मैं अपने पोशीदा गुनाहों के ज़ाहिर होने से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ। जंगलों और दरयाओं में गुनाह करने से उस की पनाह चाहता हूँ। अपनी अस्ल और फ़रअ को भुला कर बुलंदी चाहने, अपने अन्जाम पर नज़र रखने, तकब्बुर व गुरुर में मुत्तेला होने, अल्लाह तआला की एताअत कुर्ब और नेकी को छोड़ने और उसे छोड़ने पर क़सम खाने

नीज़ झूटी कसम खाने, नेकी के एलावा कसम तोड़ने, बुरे अन्जाम, हर किस्म की नेकी से अलग थलग होने और वक्ते मौत बुराई के साथ रुखसत होने से अल्लाह तआला की पनाह चाहता हूँ। 

 (यह हुजूर गौसे पाक के मअमूलात में से है, रोज़ाना 99/बार या कम से कम 9/बार पढ़ने का मअमूल बनाए मौला तआला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन)

 अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, अल्लाह के नाम से शुरूअ और ख़ूब दुरूदो सलाम नाज़िल हो हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم पर जो अल्लाह के रसूल हैं और आप صلی اللہ علیہ وسلم के वालिदैन करीमैन पर, आप صلی اللہ علیہ وسلم की आल पर, आप صلی اللہ علیہ وسلم की अज़वाज पर, आप صلی اللہ علیہ وسلم की अहले बैतो असहाब पर, और तमाम

अम्बिया और रसूलों पर, ताबेईन और तबए ताबेईन पर, और शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर और आप की आल पर, और ख़्वाजा मोईनुद्दीन हसन सन्जरी पर और आप की आल पर और मख़दूम सय्यिद अहमद वलीयुल्लाह पर और आप के सारे असहाबे रुहानी पर और आप صلی اللہ علیہ وسلم की उम्मत के तमाम औलिया पर, तमाम फिरिशतों पर और आप صلی اللہ علیہ وسلم की सारी उम्मत पर, और अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया सुनो! बेशक जिस्म के अन्दर एक गोश्त का लोथड़ा है जब वह दुरुस्त रहेगा तो सारा जिस्म दुरुस्त रहेगा जब वह ख़राब होजाएगा तो सारा जिस्म ख़राब हो जाएगा सुनो! वह दिल है।



٢٣

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّتِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ
 لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (پ:١٤)
 الْمَائِدَةُ: ١٣) صَلَاةً تَجْعَلُ بِهَا قُلُوبَ أُمَّةِ
 حَبِيبِكَ مِنْ نَقْضِ الْمِيثَاقِ وَالْمَلْعُونِ
 وَقَسَاوَةِ الْقُلُوبِ ○ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين 

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! پس ان کی بدعہدیوں کے سبب ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیئے، ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں کے دلوں کو عہد شکنی سے لعنتی ہونے سے دلوں کی سختی سے محفوظ فرمادے۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۲۳) **تर्जमा:-** अल्लाह के नाम से शुरू और तमाम तअरीफ सारे जहान के रब अल्लाह के लिए है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है कियामत के दिन का मालिक है हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ऐ हमारे

अल्लाह खूब खूब दुखदो सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلى الله عليه وسلم के दिले पाक पर तमाम दिलों में कि जिन की तरफ़ यह वही फ़रमाई: पस उन की बद अहदियों के सबब हम ने उन्हें लअनत की और उनके दिल सख़्त कर दिए। ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से अपने हबीब صلى الله عليه وسلم की उम्मतियों के दिलों को अहद शिक्नी और लअनती होने से और दिलों की सख़्ती से महफूज़ फ़रमा दे। ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके हुआ का, कबूल फ़रमा।

२३

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّتِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ
 الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
 قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ○
 (پ: ۶، البأئدہ: ۴۱) صَلَوَةٌ تَجْعَلُ بِهَا قُلُوبَ
 أُمَّةٍ حَبِيبِكَ وَالسِّنَّتَهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِكَ
 وَحَبِيبِكَ كَامِلًا ○ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان

کے رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں ان میں سے کچھ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے دلوں کو اور ان کی زبانوں کو تجھ پر اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل طور سے ایمان لانے والا بنا دے۔

اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۲۸) تَرْجَمَا: - اَللّٰهُ كَے نَام سَے شُرُؤْ اَؤر تَمَام تَؤرِیْف سَارَے جَهَان كَے رَب اَللّٰهُ كَے لِیَے هَے، بَؤَا مَہَرَبَان نِیْہَايَت رَہْم وَآلَا هَے قِیَامَت كَے دِن كَا مَالِك هَے هَم تَیْرِی هِی عِبَادَت كَرِیْن اُور تَجْهِي سَے مَدَد چَاهِیْن۔ اَے هَمَارَے اَللّٰهُ خُوب خُوب دَرُود وَ سَلَام نَازِل فَرْمَا هَمَارَے سَرْدَار مُحَمَّد صَلِیْ اَللّٰهُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ كَے دِل پَاك پَر تَمَام دِلُؤں مِیْن كَے جِن كِی طَرَف یَے وَحِی فَرْمَائِی! اَے رَسُؤل صَلِیْ اَللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تَمَہِیْن غَمگِیْن نَہ كَرِیْن وَہ جُؤ كُفْر پَر دُؤڑتَے هِیْن اِن مِیْن سَے كَچْہ اِپنَے مَنَہ سَے كَہتَے هِیْن كَے هَم اِیْمَان لَائَے حَالَانَكِہ اِن كَے دِل اِیْمَان نَہِیْن لَائَے۔ اِیْسَا دَرُود كَے جِس كِی بَرَكْت سَے اِپنَے حَبِیْب صَلِیْ اَللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ كِی اَمْتِیُؤں كَے دِلُؤں كُؤ اُور اِن كِی زَبَانُؤں كُؤ تَجْہ پَر اُور تَیْرَے حَبِیْب صَلِیْ اَللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ پَر كَامِل طُؤر سَے اِیْمَان لَانَے وَآلَا بِنَا دَے۔

اَے هَمَارَے اَللّٰهُ هَم كُؤ سِیْدِہَا رَاسْتَه چَلَا رَاسْتَه اِن كَا جِن پَر اِحْسَان كِیَا نَہ كَہ اِن كَا جِن پَر غَضَب هُؤَا اُور نَہ بَہكَے هُؤُؤں كَا۔ قَبُول فَرْمَا۔

(۲۸) تَرْجَمَا: - اَللّٰهُ كَے نَام سَے شُرُؤْ اَؤر تَمَام تَؤرِیْف سَارَے جَهَان كَے رَب اَللّٰهُ كَے لِیَے هَے، بَؤَا مَہَرَبَان نِیْہَايَت رَہْم وَآلَا هَے قِیَامَت كَے دِن كَا مَالِك هَے هَم تَیْرِی هِی

इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ऐ हमारे अल्लाह खूब खूब दुरुदो सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के दिले पाक पर तमाम दिलों में कि जिन की तरफ़ यह वही फ़रमाई: ऐ रसूल صلی اللہ علیہ وسلم तुम्हें ग़मीन ना करें वह जो कुफ़र पर दौड़ते हैं उन में से कुछ अपने मुंह से कहते हैं कि वह ईमान लाए हालाँकि उनके दिल ईमान नहीं लाए। ऐसा दुरुद कि जिस की बरकत से अपने हबीब صلی اللہ علیہ وسلم की उम्मतियों के दिलों को और ज़बानों को तुझ पर और तेरे हबीब صلی اللہ علیہ وسلم पर कामिल तौर से ईमान लाने वाला बनादे। ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके हुआ का, क़बूल फ़रमा।



٢٥

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّتِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَّكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ
 اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ (پ: ١)
 البائدة: ٣١) صَلَوَةٌ تَرْزُقُ بِهَا قُلُوبَ أُمَّةٍ
 حَبِيبِكَ ظَهَارَةً كَامِلَةً وَتَحْفَظُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 مِنَ الْخِزْيِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ ○
 اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمين

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں کے دلوں کو مکمل طور سے پاک کر دے اور انہیں دنیا میں رسوائی سے اور آخرت میں بڑے عذاب سے محفوظ فرمادے۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۲۶) **تर्जमा:-** अल्लाह के नाम से शुरू और
तमाम तअरीफ सारे जहान के रब अल्लाह के

लिए है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है
 क़ियामत के दिन का मालिक है हम तेरी ही
 इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ऐ हमारे
 अल्लाह खूब खूब दुरुदो सलाम नाज़िल फ़रमा
 हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के दिले पाक पर
 तमाम दिलों में कि जिन की तरफ़ यह वही
 फ़रमाई: यह वह हैं कि अल्लाह ने उन का
 दिल पाक करना ना चाहा उन्हें दुनिया में
 रुस्वाई है और उन्हें आख़िरत में बड़ा अज़ाब
 है। ऐसा दुरुद कि जिस की बरकत से अपने
 ह बी ब صلی اللہ علیہ وسلم की उम्मतियों के दिलों को
 मोकम्मल तौर से पाक करदे और उन्हें दुनिया
 में रुस्वाई से और आख़िरत में बड़े अज़ाब से
 महफूज़ फ़रमादे। ऐ हमारे अल्लाह हम को
 सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर
 एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब
 हुवा और ना बहके हुआ का, क़बूल फ़रमा।

٢٦


بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّتِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ
 تُصِيبَنَا دَائِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ
 أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ○ (پ: ٦، المائدة: ٥٢) صَلَوَةٌ
 تُزَكِّي بِهَا قُلُوبَ أُمَّةٍ حَبِيبِكَ مِنَ الْأَمْرَاضِ
 وَ تَرْزُقُهُمْ ذِكْرَكَ وَفِكَرَكَ وَفَتْحًا قَرِيبًا
 وَفَوْزًا مُبِينًا بِإِطَاعَتِكَ ○ اللَّهُمَّ اهْدِنَا

الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ صِرَاطِ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمين

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ یہود و نصاریٰ کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آجائے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے دلوں کو تمام مرضوں سے ستھرا کر دے اور انہیں اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنی اطاعت کے ساتھ قریبی فتح اور کھلی کامیابی عطا فرما۔

اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ
 کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۲۶) **ترجمہ:-** اﷲ کے نام سے شروع اور
 تمام تہذیب سارے جہان کے رب اﷲ کے
 لیے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
 قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی
 عبادت کریں اور تیری سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے
 اﷲ خوب خوب درود سلام نازل فرما
 ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر
 تمام دلوں میں کی جن کی طرف یہ وہی
 فرمائی: اب تم انہیں دیکھو جن کے دلوں
 میں مرج ہے کی یہود ناسارا کی طرف دڑتے
 ہیں کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کی ہم پر کوئی
 گناہ آجائے، تو نزدیک ہے کی اﷲ
 فتنہ لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم
 ایسا درود کی جس کی برکت سے اپنے

हबीब صلى الله عليه وسلم की उम्मतियों के दिलों को तमाम मर्जों से सुथरा करदे और उन्हें अपने जिक्र और फिक्र की तौफीक अता फरमा और उन्हें अपनी एताअत के साथ करीबी फतह और खुली कामयाबी अता फरमा। ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके हुआ का, कबूल फरमा। 

२८

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ


الَّذِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ
 مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا
 وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ○ (پ:۴،
 البائدة: ۱۱۳) صَلَوَةٌ تُعْطَى بِهَا قُلُوبَ أُمَّةٍ
 حَبِيبِكَ نَعْمَائِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَتُوقَفُهُمْ أَنْ يَذْكُرُوكَ وَيَشْكُرُوا بِالْإِيكِ
 وَيَقُولُوا بِالصِّدْقِ وَيَشْهَدُوا بِالْحَقِّ ○ اَللّٰهُمَّ
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے
 رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن


کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ کے دلِ پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! حواری بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں کے دلوں کو اپنی دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما اور انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ تیرا ذکر کریں اور تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں اور سچ بولیں نیز حق کی گواہی دیں۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔



(۲۷) تَرْجَمَا:—अल्लाह के नाम से शुरूअ और तमाम तअरीफ़ सारे जहान के रब अल्लाह के लिए है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है क़ियामत के दिन का मालिक है हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ऐ हमारे

अल्लाह खूब खूब दुखदो सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के दिले पाक पर तमाम दिलों में कि जिन की तरफ़ यह वही फ़रमाई: हवारी बोले हम चाहते हैं कि इस दस्तरख़्वान में से खाएं और हमारे दिल मुतमद्इन हो जाएं और हम जानलें कि आप ने हम से सच फ़रमाया और हम इस पर गवाह हो जाएं। ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से अपने हबीब صلی اللہ علیہ وسلم की उम्मतियों के दिलों को अपनी दुनिया व आख़िरत की नेअमतें अता फ़रमा और उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि वह तेरा ज़िक्र करें और तेरी नेअमतों का शुक्र गुज़ार हों और सच बोलें नीज़ हक़ की गवाही दें। ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके हुआँ का, क़बूल फ़रमा। 

٢٨

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّتِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
 أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ○
 (پ: ٤، الانعام: ٢٥) صَلَوةً تَرْزُقُ بِهَا قُلُوبَ
 أُمَّةٍ حَبِيبِكَ ذَاكِرِينَ بِكَلَامِكَ وَفَقِيهِينَ
 بِكَلَامِكَ وَسَامِعِينَ بِكَلَامِكَ ○ اللَّهُمَّ
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے

رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے

ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! اور ہم

نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیئے ہیں کہ اسے (کلام الہی) نہ سمجھیں

اور ان کے کانوں میں روئی کر دیئے۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے

اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے دلوں کو اپنے کلام کا ذکر کرنے کی

توفیق عطا فرما اور اپنے کلام کو سمجھنے اور خوب سننے کی توفیق عطا فرما۔


اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ

کہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۲۷) **ترجمہ:** -अल्लाह के नाम से शुरू और

तमाम तअरीफ सारे जहान के रब अल्लाह के

लिए है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है

क़ियामत के दिन का मालिक है हम तेरी ही
 इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ऐ हमारे
 अल्लाह खूब खूब दुरूदो सलाम नाज़िल फ़रमा
 हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के दिले पाक पर
 तमाम दिलों में कि जिन की तरफ़ यह वही
 फ़रमाई: और हमने उनके दिलों पर ग़ेलाफ़
 कर दिए हैं कि उसे (कलामे इलाही) ना समझें
 और उनके कानों में रूई कर दिए। ऐसा दुरूद
 कि जिस की बरकत से अपने हबीब صلی اللہ علیہ وسلم की
 उम्मतियों के दिलों को अपने कलाम का ज़िक्र
 करने की तौफ़ीक़ अज़ा फ़रमा और अपने
 कलाम को समझने और खूब सुनने की
 तौफ़ीक़ अज़ा फ़रमा। ऐ हमारे अल्लाह हम को
 सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर
 एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब
 हुवा और ना बहके हुआ का, क़बूल फ़रमा। 


٢٩

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّتِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ فَلَوْلَا إِذْجَاءَهُمْ
 بِأَسْنَاتِ تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
 لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (پ: ٤)
 (الانعام: ٣٣) صَلَاةٌ تُعِيدُ بِهَا قُلُوبَ أُمَّةٍ
 حَبِيبِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْقَسَاوَةِ وَمِنَ
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمين

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے دلوں کو عذاب سے، سختی سے اور شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ نہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۲۶) **ترجمہ:** -अल्लाह के नाम से शुरूअ और तमाम तअरीफ सारे जहान के रब अल्लाह के

लिए है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है
 क़ियामत के दिन का मालिक है हम तेरी ही
 इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ऐ हमारे
 अल्लाह खूब खूब दुरूदो सलाम नाज़िल फ़रमा
 हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के दिले पाक पर
 तमाम दिलों में कि जिन की तरफ़ यह वही
 फ़रमाई: पस ऐसा क्यों ना हुवा कि जब उन
 पर हमारा अज़ाब आया तो गिड़गिड़ाए होते
 लेकिन उनके दिल तो सख़्त हो गए और
 शैतान ने उनके काम उनकी निगाह में भले
 कर दिखाए। ऐसा दुरूद कि जिस की बरकत
 से अपने हबीब صلی اللہ علیہ وسلم की उम्मतियों के दिलों
 को अज़ाब से, सख़्ती से और शैतान मर्दूद से
 अपनी पनाह में लेले। ऐ हमारे अल्लाह हम
 को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर
 एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब
 हुवा और ना बहके हुआ का, क़बूल फ़रमा। 

٣٠

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اَللّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ

الَّذِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ


مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ

نُصِرْفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ○

(پ:٤، الانعام:٣٦) صَلَوةٌ تَحْفَظُ بِهَا قُلُوبُ

أُمَّةٍ حَبِيبِكَ وَسَمْعَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ مِنْ


عَذَابِكَ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ خَتَمِ الْعِصْيَانِ

وَتَجْعَلُهُمْ أَنْ يَوْمِنَا بِأَيْتِكَ وَيُطِيعُوكَ
 بِالْيَقِينِ وَتَصْدِفُ وُجُوهُهُمْ عَنْ سَيِّئَتِكَ ○
 اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ
 الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين 

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے
 رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا
 مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے
 ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! (اے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیں بھلا بتاؤ تو اگر تمہارے کان، آنکھ لے
 لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں
 یہ چیزیں لادے دیکھو ہم کس کس طرح کی آیتیں بیان کرتے

ہیں پھر بھی وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو اپنے عذاب سے اور ان کے دلوں کو گناہوں کی مہر لگنے سے بچالے اور انہیں اپنی آیتوں پر ایمان لانے والا اور یقین کے ساتھ اپنی اطاعت کرنے والا بنادے اور ان کے چہروں کو اپنی نافرمانی سے پھیر دے۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۳۰) تَرْجَمَا:- اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ اَوْر تَمَام تَاْرِیْف سَارے جہان کے رب اَللّٰہ کے لیلے ہلے، بڈا مےہربان نلہایت رھم والال ہلے کِلِیَامت کے دین کال مالیک ہلے ہم تےرل ہلے اِْبَادت کَرے اَوْر تُؤْنل سے مدد چالے۔ اے ہمارے اَللّٰہ خُوب خُوب دُرُودو سلالم نالِیل فرمال ہمارے سرदार موهْممد ﷺ کے دِلے پاک پر تَمَام دِلوں مے کِلِ جِن کِل تَرَف یه وھل فرمال: (اے هَبِیْب ﷺ) اِپ فرمال دے

भला बताओ तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान
 आँख लेले और तुम्हारे दिलों पर मोहर करदे
 तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है कि तुम्हें
 यह चीजें लादे देखो हम किस किस तरह की
 आयतें ब्यान करते हैं फिरभी वह लोग मुँह
 फेर लेते हैं। ऐसा दुखद कि जिस की बरकत
 से अपने हबीब صلی اللہ علیہ وسلم की उम्मतियों के दिलों
 को और उनके कानों को और आँखों को
 अपने अज़ाब से और उनके दिलों को गुनाहों
 की मोहर लगने से बचाले और उन्हें अपनी
 आयतों पर ईमान लाने वाला और यकीन के
 साथ अपनी एताअत करने वाला बनादे और
 उनके चेहरों को अपनी नाफरमानी से फेर दे।
 ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला
 रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि
 उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके
 हुआ का, क़बूल फ़रमा। 

٣١

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ

الَّذِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ أَوْلَمَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُؤُونَ

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ

بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ ○ (پ: ٩، الاعراف: ١٠٠) صَلَوَةٌ

تُوفَّقُ بِهَا قُلُوبَ أُمَّةٍ حَبِيبِكَ أَنْ يَشْكُرُوا

كُلَّ نِعْمَتِكَ وَتَحْرُسُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَطْبَعُ

الْعِصْيَانِ عَلَى الْقُلُوبِ وَتَعْفُو بِهَا عَنِ


ذُنُوبِهِمْ وَتُبِعِدُ سَمْعَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
 الْأَلِيمِ ○ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين




ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے دلوں کو اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں عذاب سے اور

دلوں پر گناہوں کی مہر لگنے سے بچالے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کے کانوں کو دردناک عذاب سے دور کر دے۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۳۹) **ترجمہ:**— اَللّٰہ کے نام سے شُرُوءِ اَوْر تَمَامِ تَاوْرِیْفِ سَاوْرے جہان کے رب اَللّٰہ کے لیے ہے، بڑا مہربان نہایت رُحْمِ وَاوَالَا ہے کِیَاَمَتِ کے دین کا مالک ہے ہم تیری ہی اِزْبَادَتِ کَرّے اَوْر تُوْجّی سے مدد چاہے۔ اے ہمارے اَللّٰہ خُوبِ خُوبِ دُوْرُوْدِ سَلَامِ نَاوْجِلِ فَرْمَا ہمارے سرदार مَوْحَمّد ﷺ کے دِلے پاک پر تَمَامِ دِلُوْں مے کِی جِن کی تَرَفِ یھ وہی فَرْمَا اِی: اَوْر کِیَا وہ جو جَمِیْن کے مالیکوں کے بَاوْدِ اُوْسکے وَاوْرِسِ هُوْ اُوْنھے اِتَنی هِیْدَاوْتِ نَا مِلی کِی ہم چاہے تو اُوْنھے اُوْنکے گُوْنَاھُوْں پر اَفْطِ پھُچَاوْں اَوْر ہم اُوْنکے

दिलों पर मोहर करते हैं तो वह कुछ सुनते ही नहीं। ऐसा दुरूद कि जिस की बरकत से अपने हबीब **صلى الله عليه وسلم** की उम्मतियों के दिलों को अपनी तमाम नेअमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा और उन्हें अज़ाब से और दिलों पर गुनाहों की मोहर लगने से बचाले उनके सारे गुनाहों को मुआफ़ करदे और उनके कानों को दर्दनाक अज़ाब से दूर करदे। ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके हुआओं का, कबूल फ़रमा। 

३२

○ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلٰى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّذِي اَوْحَيْتَ اِلَيْهِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ
 قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ
 الْكٰفِرِيْنَ ○ (پ: ٩: الاعراف: ١٠١) صَلَوةٌ تَحْفَظُ
 بِهَا قُلُوْبُ اُمَّةٍ حَبِيْبِكَ مِنْ صِفَاتٍ رَهَطِ
 قُلْتِ فِيْهِمْ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ
 قَبْلُ وَطَبَعْتَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَتُنَجِّى بِهَا قُلُوْبِ
 اُمَّةٍ حَبِيْبِكَ مِنْ اَوْصَافِ اَهْلِ هُوْلَاءِ
 الْقُلُوْبِ وَتَحْرُسُهُمْ بِهَمْ اَبَدَ الْاَبَادِ ○

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے اللہ یونہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے دلوں کو ایسی قوم کی صفات سے محفوظ فرما دے کہ جن کے بارے میں فرمایا اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ


وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اور اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں کے دلوں کو ان دل والوں کے اوصاف سے نجات دے دے اور انہیں ہمیشہ ان لوگوں سے بچالے۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔

(۳۲) ترجمہ:- اﷲ کے نام سے شروع اور تمام تہذیب سارے جہان کے رب اﷲ کے لیے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری سے مدد چاہیں۔ اے ہمارے اﷲ خوب خوب دُروہو سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ کے لیے پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وہی فرمائی: اور بےشک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس کا بیلنا نہ ہو کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے

पहले झुटला चुके थे अल्लाह यूँही मोहर लगा देता है काफ़िरों के दिलों पर। ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से अपने हबीब **صلی اللہ علیہ وسلم** की उम्मतियों के दिलों को ऐसी कौम की सिफ़ात से महफूज़ फ़रमादे कि जिन के बारे में फ़रमाया और बेशक उनके पास उनके रसूल रौशन दलीलें लेकर आए तो वह इस क़ाबिल ना हुए कि वह इस पर ईमान लाते जिसे पहले झुटला चुके थे और उनके दिलों पर मोहर लगाया अपने हबीब **صلی اللہ علیہ وسلم** की उम्मतियों के दिलों को इन दिल वालों के औसाफ़ से नजात देदे और उन्हें हमेशा इन से बचाले। ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके हुआओं का, कबूल फ़रमा।



٣٣

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ
 الَّتِي أَوْحَيْتَ إِلَيْهِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ
 كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
 لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
 وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ
 كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
 الْغَافِلُونَ ○ (پ: ۹، الاعراف: ۱۷۹) صَلَوَةٌ تُنَجِّي
 بِهَا قُلُوبَ أُمَّةٍ حَبِيبِكَ هَمِّنْ قُلْتَ فِيهِمْ


وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
 لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
 لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
 أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
 الْغَافِلُونَ وَتَحَفُّظُهُمْ بِهَا بِأَفْعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ
 وَصِفَاتِهِمْ ○ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف سارے جہان کے
 رب اللہ کے لئے ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت کے دن کا
 مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے
 ہمارے اللہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دل پاک پر تمام دلوں میں کہ جن کی طرف یہ وحی فرمائی! اور بے

شک ہم نے جہنم کے لئے پیدا کئے بہت جن اور آدمی وہ ایسا دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں کے دلوں کو ان لوگوں سے بچالے کہ جن کے بارے میں فرمایا اور بے شک ہم نے جہنم کے لئے پیدا کئے بہت جن اور آدمی وہ ایسا دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور انہیں ان لوگوں کے افعال و احوال اور صفات سے محفوظ فرمادے۔ اے ہمارے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر احسان کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوؤں کا۔ قبول فرما۔


(۳۳) **تَرْجَمًا:** - اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ اَوْر تَمَام تَاْرِیْف سَارے جہان کے رب اَللّٰہ کے لیے ہے، بڈا مہر بان نیہایت رھم والا ہے

क़ियामत के दिन का मालिक है हम तेरी ही
 इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ऐ हमारे
 अल्लाह खूब खूब दुरूदो सलाम नाज़िल फ़रमा
 हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के दिले पाक पर
 तमाम दिलों में कि जिन की तरफ़ यह वही
 फ़रमाई: और बेशक हमने जहन्नम के लिए
 पैदा किए बहुत जिन्न और आदमी वह ऐसा
 दिल रखते हैं जिन में समझ नहीं और वह
 आँखें जिन से देखते नहीं और वह कान जिन
 से सुनते नहीं वह चौपायों की तरह हैं बल्कि
 उनसे बढ़ कर गुमराह हैं वही लोग ग़फ़लत में
 पड़े हैं। ऐसा दुरूद कि जिस की बरकत से
 अपने हबीब صلی اللہ علیہ وسلم की उम्मतियों के दिलों को
 उन लोगों से बचाले कि जिनके बारे में
 फ़रमाया और बेशक हमने जहन्नम के लिए
 पैदा किए बहुत जिन्न और आदमी वह ऐसा
 दिल रखते हैं जिन में समझ नहीं और वह
 आँखें जिन से देखते नहीं और वह कान जिन

से सुनते नहीं वह चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे बढ़ कर गुमराह हैं वही लोग ग़फ़लत में पड़े है और उन्हें इन लोगों के अफ़आल व अहवाल और सिफ़ात से महफूज़ फ़रमादे। ऐ हमारे अल्लाह हम को सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर एहसान किया ना कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके हुआ का, कबूल फ़रमा। 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ 
 فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 فِي الْقُلُوبِ وَصَلِّ عَلَى عَقْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 فِي الْعُقُولِ وَصَلِّ عَلَى نَفْسِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 فِي النَّفُوسِ وَصَلِّ عَلَى جِسْمِ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَامِ وَصَلِّ عَلَى إِسْمِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ وَصَلِّ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ
 مَعْلُومٍ لَكَ ○ 

ترجمہ: اے ہمارے اللہ خوب درود نازل فرما ہمارے سردار محمد
 ﷺ کی روح پاک پر تمام روحوں میں اور خوب درود نازل فرما
 ہمارے سردار محمد ﷺ کے دل پاک پر تمام دلوں میں اور خوب
 درود نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ کے عقل پاک پر تمام عقلوں
 میں اور خوب درود نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ کے نفس پاک
 پر تمام نفسوں میں اور خوب درود نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ
 کے جسم پاک پر تمام جسموں میں اور خوب درود نازل فرما ہمارے
 سردار محمد ﷺ کے نام پاک پر تمام ناموں میں اور خوب درود نازل
 فرما ہمارے سردار محمد ﷺ کے قبر پاک پر تمام قبروں میں اور خوب
 برکت و سلامتی نازل فرما اپنی تمام معلوم تعداد کے مطابق۔ 

تર્جما:- ऐ हमारे अल्लाह खूब दुखद नाज़िल
 फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद ﷺ की रूहे

पाक पर तमाम रूहों में और खूब दुरूद नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के दिले पाक पर तमाम दिलों में और खूब दुरूद नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के अक्ले पाक पर तमाम अक्लों में और खूब दुरूद नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के नफ़से पाक पर तमाम नफ़सों में और खूब दुरूद नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के जिस्मे पाक पर तमाम जिस्मों में और खूब दुरूद नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के नामे पाक पर, तमाम नामों में और खूब दुरूद नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार मोहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की कब्रे पाक पर तमाम कब्रों में और खूब बरकत व सलामती नाज़िल फ़रमा अपनी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ النُّورَانِيَّةُ

مَعَ بَيَانِ أَنْسَابِ الشَّيْخِ

عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بِسْمِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا هُوَ نُورُ اللَّهِ وَحَبِيبِ

اللَّهِ وَنَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَا إِلَهَ

الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ ❀ يَا رَبَّ الشَّيْخِ
 عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ مَا تَصَلِّيَ
 وَمَلَأْتَكَ وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَكُلِّ مَنْ خَلَقَكَ
 يُصَلُّونَ وَ يُسَلِّمُونَ وَمَا مَرَّقَوْمٌ عَلَى اللُّوَجِ
 الْمَحْفُوظِ وَمَا يَصَلِّيَ وَيُسَلِّمُ الشَّيْخِ
 عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ بِأَمْرِكَ الْأَزَلِيِّ كُنْ فَيَكُونُ
 بِقُدْرَتِكَ الْقَدِيمَةِ كُلِّ انِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
 كَرَمِكَ ❀ وَنُورِكَ ❀ وَمَحَبَّتِكَ ❀ وَحَبِيبِكَ ❀
 وَمَحْبُوبِكَ ❀ وَ دَلِيلِكَ الْحَقِّ ❀ مُحَمَّدِينَ الذِّي
 قُلْتَ فِيهِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَكَفَى بِاللَّهِ
 شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ❀ وَعَلَى وَالِدَيْهِ ❀
 وَالِهِ ❀ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ❀ وَأَصْحَابِهِ ❀ وَنُورِ

الْمُصْطَفَى سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فِي الْحِجَّةِ فَاطِمَةَ
 الزَّهْرَاءِ ❀ وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِنَا الْمَوْلَى
 عَلِيَّ الْمُرْتَضَى ❀ وَالِإِلهِ ❀ وَنُورِ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي
 شَبَابِ أَهْلِ الْحِجَّةِ سَيِّدِي الْإِمَامِ الْحَسَنِ ❀
 وَالِإِلهِ ❀ وَسَيِّدِي الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ ❀ وَالِإِلهِ ❀
 وَجَمِيعِ الشُّهَدَاءِ كَرْبَلَاءِ ❀ وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ
 سَيِّدِي حَسَنِ الْمِثْقَى ❀ وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ
 سَيِّدِي الْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ❀ وَنُورِ الْإِمَامِ
 الْحَسَنِ سَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَحْضِ ❀ وَنُورِ
 الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِي الْإِمَامِ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ ❀
 وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ سَيِّدِي مُوسَى الْجَوْنِ ❀
 وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِي الْإِمَامِ جَعْفَرِ
 الصَّادِقِ ❀ وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ سَيِّدِي

عَبْدِ اللَّهِ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِي
 الْإِمَامِ مُوسَى الْكَاطِمِ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ
 سَيِّدِي مُوسَى الثَّانِي • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ
 سَيِّدِي الْإِمَامِ عَلِيِّ رَضَا • وَنُورِ الْإِمَامِ
 الْحَسَنِ سَيِّدِي دَاوُدَ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ
 سَيِّدِي مُحَمَّدٍ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ سَيِّدِي
 مُحَمَّدٍ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِي أَبِي عَلَاءِ
 الدِّينِ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ سَيِّدِي يَحْيَى
 الزَّاهِدِ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِي
 عَيْسَى • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ سَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ
 الْحِجْلَانِيِّ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِي أَبِي
 كَمَالٍ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ سَيِّدِي أَبِي صَالِحِ
 مُوسَى جَنْكِي دُوسْتِ • وَنُورِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ

سَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ • وَسَيِّدِي أَبِي عَطَّارٍ •
 وَسَيِّدِي طَاهِرٍ • وَسَيِّدِي مُحَمَّدٍ • وَسَيِّدِي
 مُحَمَّدٍ • وَسَيِّدِي أَبِي جَمَالٍ • وَسَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ
 الصَّومَعِيِّ الْحُسَيْنِيِّ • وَسَيِّدَتِي أُمِّ الْخَيْرِ
 فَاطِمَةَ • وَنُورَ الْإِمَامِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدِي
 وَمُرْشِدِي وَرُوحِي • وَقَلْبِي • مُحَمَّدِي الدِّينِ •
 الْبَارِ الْأَشْهَبِ • الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ
 الْجِيلَانِيِّ • وَكُلِّ إِلَهٍ • وَأَزْوَاجِهِ • وَخُلَفَائِهِ وَ
 مُرِيدِيهِ • صَلَوَاتُكَ تَغْفِرُ لَنَا بِهَا وَلِوَالِدَيْنَا وَ
 لِمَنْ تَوَالَدَ وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ
 الْأَمْوَاتِ أَجْمَعِينَ • بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ • وَتَقْضِي بِهَا كُلَّ حَاجَاتِنَا •

وَتَجْعَلْنَا بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ
 لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ اللَّهُمَّ
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ
 الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمين ۝



الصَّلَاةُ الْقَادِرِيَّةُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا هُوَ نُورُ اللَّهِ 🌹 وَحَبِيبِ
 اللَّهِ 🌹 وَنَبِيِّ اللَّهِ 🌹 مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ 🌹 يَا إِلَهَ
 الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ 🌹 يَا رَبَّ الشَّيْخِ
 عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا كَرَمِكَ 🌹 وَنُورِكَ 🌹 وَمَحَبَّتِكَ
 وَحَبِيبِكَ 🌹 وَمَحْبُوبِكَ 🌹 وَدَائِمِ رَحْمَتِكَ 🌹
 وَالْبَدْرِ الْكَامِلِ مَنْ لَّهُ الشَّامَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 فِي طُولِ الزَّمَانِ 🌹 وَعَلَامَةُ نَبِينَا وَمَوْلَانَا
 مُظَلَّلٌ بِالرَّحْمَةِ عَلَى الْعَالَمِينَ 🌹 وَهُوَ نُورُ
 نُورِكَ 🌹 وَسِرُّ سِرِّكَ 🌹 وَكَرْمُ كَرَمِكَ 🌹
 وَرَحْمَةُ رَحْمَتِكَ 🌹 وَفَيْضُ فَيْضِكَ 🌹 وَرِضَاءُ
 رِضَائِكَ 🌹 وَحُكْمُ حُكْمِكَ 🌹 وَرَوْفُ
 بُعْبَادِكَ 🌹 وَمُفَيْضُ بُمُحِبِّكَ 🌹 مُحَمَّدٍ رَسُولِ

اللَّهُ • وَعَلَى وَالِدَيْهِ • وَإِلَيْهِ • وَأَصْحَابِهِ •
 وَأَهْلِ بَيْتِهِ • وَالسَّيِّدَةَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ •
 وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي الْمَوْلَى عَلِيٍّ
 الْمُرْتَضَى • وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي
 الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ • وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى
 سَيِّدِي الْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ • وَفَيْضَانَ
 الْمُصْطَفَى سَيِّدِي الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ •
 وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي الْإِمَامِ جَعْفَرِ
 الصَّادِقِ • وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي
 الْإِمَامِ مُوسَى الْكَاطِمِ • وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى
 سَيِّدِي أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ • وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى
 سَيِّدِي مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ • وَفَيْضَانَ
 الْمُصْطَفَى سَيِّدِي سِرِّي السَّقَطِيِّ • وَفَيْضَانَ

الْمُصْطَفَى سَيِّدِي أَبِي الْقَاسِمِ جُنَيْدٍ
 الْبَغْدَادِيِّ ❀ وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي أَبِي
 بَكْرِ الشَّيْخِ الشُّبَلِيِّ ❀ وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى
 سَيِّدِي أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ التَّيْمِيِّ ❀
 وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي أَبِي الْفَرَجِ
 الطَّرْطُوسِيِّ ❀ وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي أَبِي
 الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرَشِيِّ الْهَنْكَارِيِّ ❀
 وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِي أَبِي سَعِيدِ
 الْمَخْزُومِيِّ ❀ وَفَيْضَانَ الْمُصْطَفَى ❀ وَنُورِ
 الْمُصْطَفَى ❀ وَقَدَمِ الْمُصْطَفَى ❀ وَحُكْمِ
 الْمُصْطَفَى ❀ وَشَرِيْعَةِ الْمُصْطَفَى ❀ وَطَرِيقَةِ
 الْمُصْطَفَى ❀ وَمَعْرِفَةِ الْمُصْطَفَى ❀ وَحَقِيقَةِ
 الْمُصْطَفَى ❀ وَسِرِّ الْمُصْطَفَى ❀ وَكَرَمِ

أَقْوَالَنَا وَأَفْعَالِهِمْ أَفْعَالَنَا ۝ رَبَّنَا آتِنَا فِي
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ ۝ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ ۝



مرتب

بفیض روحانی سیدنا محی الدین و سیدنا معین الدین
 و حضرات مخدومین سادات چودہوں پیراں

محمد عزیز سلطان القادری

منجانب: اراکین کمیٹی مسجد و درگاہ
 حضرات مخدومین سادات چودہوں پیراں رضی اللہ عنہم الہ آباد، یو پی۔

www.syed14peer.com

Mob.: 9695435877 جمادی الاول ۱۴۴۲ھ مطابق دسمبر ۲۰۲۰ء ❀❀❀



آستانہ حضرات مخدومین سادات چودہوں پیراں (علیہم الرحمۃ والرضوان) الہ آباد

www.syed14peer.com